

بہت سی ایسی خدمات جن کا استعمال آپ اور آپ کے خاندان کے ذریعہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سڑکیں، تفریحی مراکز، پارک، پارکنگ، اسکول، ٹرانزٹ اور عوامی جگہیں سبھی آپ کی مقامی حکومت کے زیر انتظام ہیں اور انہیں آپ کے پراپرٹی ٹیکس ڈالرز سے فنڈز فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ کے علاقے اور Oakville میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے شکل دینے کے لیے ووٹنگ آپ کے لیے دستیاب اہم ترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس الیکشن میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ان آسان اقدامات پر عمل کریں۔

مرحلہ 1 - اہلیت

آپ اہل ہیں اگر آپ:

- کنیڈا کے شہری ہیں؛
- الیکشن سے قبل آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے؛
- Oakville کے رہائشی ہیں، یا زمین کے مالک یا کرایہ دار ہیں، یا ایسے کسی مالک کے/کی شریک حیات ہیں۔

اگر Oakville میں آپ کی ایک سے زیادہ جائیداد ہے، تو اپنی بنیادی رہائشی پتہ کی بنیاد پر ایک بار ووٹ دے سکتے ہیں۔




مرحلہ 2 - ووٹ کے لیے رجسٹر کریں

ووٹ دینے جانے سے قبل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود ہے elections.oakville.ca پر جائیں۔ ہمارے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود نہیں ہے؟ اگر آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں، تو لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دیں، یا نام اور پتہ ظاہر کرنے والی شناختی دستاویز کے ساتھ ووٹنگ کی جگہ پر جائیں۔



مرحلہ 3 - میل کے ذریعہ ووٹر نوٹس حاصل کریں

اسے ان لوگوں کو ستمبر میں میل کیا جائے گا جن کے نام ووٹرز لسٹ میں موجود ہیں اور اس میں تاریخوں اور مقام کی معلومات کے ساتھ ایک خط اور ووٹر نوٹس شامل ہوگا۔ اگر ستمبر میں آپ کو ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوتا ہے، تو ووٹرز لسٹ میں ترمیم کے لیے آن لائن درخواست کو مکمل کریں (شناخت مطلوب ہے) یا شناختی دستاویز کے ساتھ ووٹنگ کے مقام پر جائیں۔



مرحلہ 4 - ووٹنگ کی تاریخ اور مقام کا انتخاب کریں

Oakville میں کہیں بھی جلدی ووٹ دیں یا 24 اکتوبر کو اپنے وارڈ میں کسی بھی مقام پر ووٹ دیں۔
مقاموں اور اوقات کی مکمل فہرست کے لیے elections.oakville.ca پر جائیں۔



اکتوبر 2022						
S	M	T	W	T	F	S
						1
					پیشگی ووٹنگ	
	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	ووٹنگ کا دن	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31					

اُو

اپنی طرف سے ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی ووٹر تفویض کریں۔ پراکسی فارم آن لائن دستیاب ہیں۔
پراکسی کے طور پر مقرر کردہ شخص کو ٹاؤن ہال میں ذاتی طور پر فارم جمع کرانا لازمی ہے۔

مرحلہ 5 - اپنی شناختی دستاویز لائیں

اگر آپ کو اپنی ووٹر نوٹس میل کے ذریعہ موصول ہوئی ہے، تو اسے اور ایک شناختی دستاویز مثلاً ڈرائیورز لائسنس ساتھ لائیں۔ اگر آپ کو ووٹر نوٹس موصول نہیں ہوئی ہے، تو ایک ایسی شناختی دستاویز ساتھ لائیں جس پر آپ کا نام اور پتہ درج ہو۔



مرحلہ 6 - ووٹ

ووٹنگ کے مقام پر، بیلٹ دیے جانے سے قبل، اہلیت کے لیے آپ کی شناختی دستاویز کی جانچ کی جائے گی۔ ہر ایک زمرہ میں X کا نشان لگا کر اسے منتخب کریں
- میئر، مقامی کونسلر، ٹاؤن کونسلر، مقامی صدر اور اسکول بورڈ ٹرسٹی۔



رسائی اور شمولیت

ووٹ دینے جانے سے پہلے، اگر آپ کو کسی دوسری زبان میں ووٹنگ کی معلومات درکار ہوں، تو 240 سے زیادہ زبانوں میں فون پر دستیاب ترجمانی کے لیے 905-845-6601 پر کال کریں۔



ووٹنگ کے تمام مقامات مادی طور پر قابل رسائی ہیں اور رسائی کے آلات اور خدمات دستیاب ہیں۔

